



باب اِسْتَفْعَالٌ (فارم 10) مضارع مجھول: Baab Istif'alun Form 10 Mudare Majhool (Passive Past):

باب اِسْتَفْعَالٌ فارم 10 مضارع مجھول بنانے کے لیے بنیادی وزن "يُفْعَلُ" کے مطابق "يُسْتَفْعَلُ" ہوگا۔ فارم 10 میں مضارع کی علامت کو "ضمة" آئے گا۔ اور "عین" کلمہ پر فتح آئے گا۔

Mudare' Majhool of Baab Istif'alun Form 10 is formed by giving Damma to the sign of Mudare' of the Mudare Maloom segment.

يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ يُسْتَفْعَلُ

باب اِسْتَفْعَالٌ (فارم 10) اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان:

Baab Istif'alun Form 10 Ism Faa'il, Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan:

باب اِسْتَفْعَالٌ فارم 10 سے بھی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فیہ ابواب کے قواعد کے مطابق ہی ہے۔

The method of formation of Ism Faa'il, Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan in form 10 is the same.

یعنی اسم فاعل بنانے کے لیے فعل مضارع معلوم کی علامت مضارع کو ہٹا کر میم (م) مضموم لگادیں اور آخری (لام کلمہ) پر تنوین لگادیں۔

It means to make Ism Faa'il the sign of Mudare of Mudare Maloom is replaced by Meem Madmoom and the last letter (Laam Kalimah) is given a Tanween.

اور اسم مفعول، اسم مکان و زمان بنانے کے لیے فعل مضارع مجھول کی علامت مضارع کو ہٹا کر میم (م) مضموم لگادیں اور آخری (لام کلمہ) پر تنوین لگادیں۔

To form Ism Mafa'ool, Ism Makaan, Ism Zamaan, the sign of Mudare of Mudare Majhool is replaced by Meem Madmoom and the last letter (Laam Kalimah) is given a Tanween.

اسم فاعل: مُسْتَفْعِلٌ (مُسْتَفْعِلٌ) مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ

One who asks forgiveness.

بِخَشْشِ مَانِكْنِي وَاللَّـ

اسم مفعول: مُسْتَفْعِلٌ (مُسْتَفْعِلٌ) مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ مُسْتَفْعِلٌ

One who forgives/ forgiver.

بِخَشْشِ دِيَا جَانِي وَاللَّـ

باب اِسْتَفْعَالٌ (فارم 10) فعل امر: Fail Amar (Imperative) of Baab Istif'al-un form 10:

باب اِسْتَفْعَالٌ میں بھی فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دیں توفاء کلمہ ساکن ہو جائے گا، چونکہ فاء کلمہ ساکن پڑھا نہیں جاسکتا اس لئے امر کے شروع میں ہمزة الوصل لگایا جاتا ہے۔ لام کلمہ کو بھی ساکن کیا جاتا ہے۔

In Mudare' Ma'toom of Form 10 By replacing Hamzat al wasl with the sign of mudare. Ain Kalimah gets a Kasrah and Laam Kalimah (third radical) has a Damma

(غ ف ر) تَسْتَعْفِرُ سَتَعْفِرُ اِسْتَعْفِرُ بِخَشْشِ مَانِكُو ask for forgiveness

بابِ اسْتِفْعَالٍ (فارم 10) مصدر:

استكبرَ / استكبرَ على / استكبرَ عن يستكبر ، استكبارًا ، فهو مُستكبر ، والمفعول مُستكبر

arrogance. بڑا بننا

استبشّرَ / استبشّرَ بـ يستبشّر ، استبشارًا ، فهو مُستبشّر ، والمفعول مُستبشّر به

rejoice especially in good news. خوشخبری دینا

استشهدَ / استشهدَ على / استشهدَ في يستشهد، استشهادًا، فهو مُستشهد ، والمفعول مُستشهد

Quote . گواہی دینا

استقامَ يستقيم ، استقم ، استقامةً ، فهو مُستقيم

Straightness . استقامت ہونا

استعانَ / استعانَ بـ يستعين ، استعن ، استعانةً ، فهو مُستعين ، والمفعول مُستعان

Seeking help. مدد مانگنا

بابِ اسْتِفْعَالٍ (فارم 10) تعليلات:

بابِ اسْتِفْعَالٍ فارم 10 مصدر کا بنیادی وزن "اسْتِفْعَالٌ" ہے۔ لیکن افعال کے مادہ کے اعتبار سے اقسام کے مطابق مصدر میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

The remedial rules for Sulaasi Mujarrad and Sulaasi Mazeed Fihi, Mahmuzul Fa and Mua'ttal verbs are the same. But some changes occur in it consistent with the type of verb according to the root letters.

أَجْوَفَ وَوَاوِي مَصْدَر:

بابِ اسْتِفْعَالٍ فارم 10 میں جو افعال "أَجْوَفَ وَوَاوِي" اور بانی "کی قسم سے ہوں تو ان کے مصدر میں حرف علت عین کلمہ کو حذف کر کے اس کے عوض آخر میں "تاءً مربوطةً" بڑھا دی جاتی ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں تبدیلی پر غور کریں۔

Masdar of Ajwaf Waawi: The Masdar of verbs from Ajwaf Waawi categories in form 8 have their Ain Kalimah Herf Illa waw will change into Ya according to the Compatibility/ Coordination with the Kasrah. See the change in the following examples:

(ق و م) اسْتِفْوَامٌ اسْتِفْوَامٌ اسْتِقَامٌ اسْتِقَامَةٌ

استقامت Righteously. Straightening

ناقص واوی ویائی مصدر:

باب اسْتَفْعَالُ فارم 10 میں جو افعال " ناقص واوی اور یائی " کی قسم سے ہوں تو ان کے مصدر میں حرف علت لام کلمہ وزن کی الف زائدہ کے بعد آخر میں "ہمزہ" میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں تبدیلی پر غور کریں۔

Masdar of Naaqis Waawi and Yae: In the Masdar of the verbs from Naaqis Waawi and Yae categories in form 8 the Laam Kalimah Herf Illat after the Alif Zaidah of the pattern, changes to Hamzah. See the change in the following examples:

(ش ري) اسْتَعْنَيْتُ اسْتِغْنَيْتُ اسْتِغْنَيْتُ اسْتِغْنَيْتُ اسْتِغْنَيْتُ

بے پروا ہونا. to be self-sufficient.

Characteristics of Form 10 Baab Istfi'alun:

باب اسْتَفْعَالُ فارم 10 خصوصیات:

مزید فیہ کے تمام اوزان کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اس وزن کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

All the patterns of have different characteristics. This pattern has the following ones:

طلب: اس وزن کی اہم خصوصیت ہے "طلب کرنا اور خواہش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

Implying the meaning of seeking / asking for is a very important feature of this pattern.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: 5)

ہم تیری (ہی) عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ (ہی) سے مدد چاہتے ہیں

مبالغة یا تکثیر: سے مراد بڑھا کر بتانا یا کسی چیز کی کثرت، زیادتی کو بیان کرنا۔ To exaggerate.

﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (نوح: 7)

انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لئے اور ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا

they put their fingers in their ears, covered themselves with their garments, persisted, and were arrogant with [great] arrogance.

قَصْر: کسی بات کو مختصر کرنے کے لیے جملے کی بجائے ایک کلمہ بولنا۔

To use a single word in place of a sentence to express briefly

رَجَعَ اسْتَرْجَعَ (اس نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا)